

کیلیفورنیا لاس اینجلیس یونیورسٹی

تحقیق میں شرکت کنندہ کے

حقوق کا بل

یہ حقوق ایسے ہر ایک شخص کے حقوق ہیں جس سے ایک طبی تحقیقی مطالعہ میں شرکت کرنے کے لئے درخواست کی جاتی ہے۔ تحقیق میں ایک شرکت کنندہ کی حیثیت سے مجھے درج ذیل حقوق حاصل ہیں:

1. مجھے یہ بتائے جانے کا حق حاصل ہے کہ تحقیق سے کیا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
2. مجھے تمام تحقیقی کارروائیوں، دوائیوں، اور/یا آلات اور اس بارے میں بتائے جانے کا حق حاصل ہے کہ آیا ان میں سے کوئی اس سے مختلف ہے جو معیاری طبی مشغلہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔
3. مجھے کسی بھی ایسے خطرہ، تکلیف یا ضمنی اثرات کے بارے میں بتائے جانے کا حق حاصل ہے جو تحقیق کے نتیجہ میں معقول طور پر پیش آسکتا ہے۔
4. مجھے ایسے منافع، اگر کوئی ہو، کے بارے میں بتائے جانے کا حق حاصل ہے جس کی میں شرکت سے معقول طور پر توقع کرسکتا ہوں۔
5. مجھے ان دیگر اختیارات جو میرے پاس ہیں اور اس بارے میں بتائے جانے کا حق حاصل ہے کہ وہ تحقیق میں شرکت کرنے کے بالمقابل کس طرح زیادہ بہتر یا خراب ہوسکتے ہیں۔ ان اختیارات میں دیگر کارروائیاں، دوائی یا آلات شامل ہوسکتے ہیں۔
6. مجھے یہ بتائے جانے کا حق حاصل ہے کہ اگر تحقیق کسی پیچیدگی کا سبب بنتی ہے تو کس طرح کا علاج دستیاب ہوگا۔
7. مجھے یہ موقع پانے کا حق حاصل ہے کہ میں تحقیق یا کارروائی کے بارے میں کوئی سوال دریافت کرسکوں۔ میں یہ سوالات تحقیق کے آغاز سے قبل یا تحقیق کے دوران کسی بھی وقت دریافت کرسکتا ہوں۔
8. مجھے تحقیق کا حصہ بننے سے انکار کرنے یا کسی بھی وقت اس سے رک جانے کا حق حاصل ہے۔ یہ فیصلہ میری نگہداشت یا میرے ڈاکٹر یا اس ادارہ سے میرے رشتہ پر کسی بھی دیگر صورت میں اثر انداز نہیں ہوگا۔
9. مجھے تحقیق کے لئے دستخط شدہ اور مورخہ تحریری رضامندی فارم کی ایک نقل پانے کا حق حاصل ہے۔
10. مجھے یہ فیصلہ کرنے کے لئے کسی بھی دباؤ سے آزاد ہونے کا حق حاصل ہے کہ آیا میں اس تحقیقی مطالعہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔

اگر میرے پاس کوئی سوال یا معاملہ ہو تو میں تحقیق کار یا تحقیق کے معاون سے دریافت کرسکتا ہوں۔ میں تحقیقی موضوعات کے تحفظ کے دفتر (OHRPP) سے بھی رابطہ کرسکتا ہوں، جو تحقیقی مطالعہ میں شرکت کنندگان کے تحفظ میں مدد دیتا ہے۔ میں 8.00 بجے صبح تا 5.00 بجے شام، پیر تا جمعہ 310-825-5344 پر کال کرکے OHRPP تک پہنچ سکتا ہوں۔ اگر میں اس دفتر میں کال کرتا ہوں اور میں انگریزی یا ہسپانوی نہیں بول سکتا ہوں، تو میرے لئے کوئی ایسا شخص دستیاب ہونا چاہئے جو میرے لئے ترجمانی کا کام انجام دے سکے۔ میں OHRPP, 11000 Kinross Avenue, Suite 102, Box 951694, Los Angeles, CA 90095-1694 کو لکھ بھیج سکتا ہوں۔